



محدث فتویٰ

سوال

(786) آج کل نزرو نیاز کا بڑا رواج ہے رجع

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

آج کل نزرو نیاز کا بڑا رواج ہے پھر صنایہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا کام کر دے تو۔۔۔ انقل پڑھوں گا ایک کہتا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے تو میں اتنی رقم غربوں میں تقسیم کروں گا ایک کہتا ہے اللہ میرا شادی فلاں بلکہ کر دے تو میں اپنی اولاد اسلام کے لیے وقف کر دوں گا کیا سب سودے بازی کی شکل نہیں ہے کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو لائچ دے کر کوئی کام کروانا چاہتے ہیں؟

الجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

جواب: یعنی صورتیں جو آپ نے رقم فرمائی ہیں طاعت و نیکی کی نذر کے زمرہ میں آتی ہیں طاعت و نیکی کی نذر بھی شرع میں منع ہے تاہم اگر کوئی طاعت و نیکی کی نذر مان لے تو اسے پورا کرنا فرض اور ضروری ہے ورنہ کفارہ نذر ادا کرنا ہو گا۔ ۱۴۱۹ / ۱۰ / ۳ء

قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل

502 ص 01 جلد

محدث فتویٰ